

برائے فوری اجراء

سٹی کو برامپٹن ٹرانزٹ کی شاندار کارکردگی پر 2022 کا بزنس ایکسپلنس ایوارڈ ملا ہے

برامپٹن، آن (9 مئی 2022) – برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ نے حال ہی میں اپنے 2022 بزنس ایکسپلنس ایوارڈز گالا کی میزبانی کی ہے، جس میں سٹی آف برامپٹن کو برامپٹن ٹرانزٹ میں بہتریاں لانے کے حوالے سے اس کی سچی لگن اور اپنی بسوں کے بیڑے کو الیکٹرک پاور پر منتقل کرنے کے شاندار کام پر اسمارٹ سلوشنز کے زمرے کے تحت ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔

اس ضمن میں، برامپٹن ٹرانزٹ نے اب تک کئی قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں، جن میں بین-کینیڈین BEB ڈیماسٹریشن اینڈ انٹیگریشن ٹرائل کے حصے کے طور پر اپنی بیٹری الیکٹرک بس (BEB) ٹرائل کے مرحلہ 1 کا آغاز، برامپٹن سٹی کونسل کی جانب سے مکمل طور پر بجلی سے چلنے والی تیسری نئی ٹرانزٹ سہولت کی توثیق اور حال ہی میں کینیڈا انفراسٹرکچر بینک (CIB) کے ساتھ مالیاتی انتظامات، جو برامپٹن کو اب اور 2027 کے درمیان 450 عدد تک BEBs کی خریداری میں مدد فراہم کرنے کے لیے \$400M تک کی سرمایہ کاری فراہم کرے گا۔

سمارٹ سلوشنز ایوارڈ ڈیجیٹل تبدیلی میں کامیابیوں اور عمدگی کے حوالے سے تنظیموں کے اہم کارناموں کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ برامپٹن ٹرانزٹ کو ٹرانزٹ کے شعبے میں مسلسل تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھنے کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اس نے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے، قدر فراہم کرنے اور بالآخر کمیونٹی کے لیے ترقی کرنے کے لیے تحقیق، دریافت اور نئی اور جدید ٹیکنالوجیز کو نہایت شاندار کامیابی سے اپنایا ہے۔ [مزید جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔](#)

اقتباسات

"سٹی آف برامپٹن کو برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ سے برامپٹن ٹرانزٹ کے لیے 2022 کا بزنس ایکسپلنس ایوارڈ حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ برامپٹن ٹرانزٹ، ٹرانزٹ اسپیس میں ڈیجیٹل تبدیلی میں ایک رہنما ہے، جو ہمارے شہر کو متحرک رکھنے کے لیے مسلسل اختراعات اور بہترین سروس فراہم کرتا ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کا 2022 بزنس ایکسپلنس ایوارڈ کے ذریعے اسمارٹ سلوشنز کے زمرے کے تحت برامپٹن ٹرانزٹ کو تسلیم کرنے پر بہت شکریہ۔ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے ساتھ مستقبل کی تشکیل بھی کر رہا ہے، جو دیگر میونسپلٹیوں کے لیے راہنمائی فراہم کر رہا ہے اور برامپٹن کو رہائش رکھنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے مزید بہتر جگہ بنا رہا ہے۔"

پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے، میں برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسمارٹ سلوشنز کے ذریعے ہماری کاوشوں کو تسلیم کیا ہے۔ مجھے اپنی ٹیم کے کاموں پر ناقابل یقین حد تک فخر ہے جو صنعت کے قائدین کے طور پر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں – اور جو اپنے صارفین کے لیے بہترین خدمات فراہم کرتے ہوئے ترقی، ڈیجیٹل اختراع اور ماحولیاتی پائیداری کو متوازن کرتی ہے۔ ہماری نگاہ ہر وقت مستقبل پر مرکوز رہتی اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہم اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز، جیسا کہ مقامی کاروباروں کے تعاون پر انحصار کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کی بھرپور خدمت کر سکیں۔ اس اعزاز کے لیے ایک بار پھر آپ کا شکریہ اور ہم اپنی مسلسل شراکت کے منتظر ہیں۔"

- ایلکس ملوچیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا عملہ ٹرانزٹ کے میدان میں رونما ہونے والی مسلسل تبدیلیوں کو اپنانے کے لیے وقف ہے، تاکہ ہم مستقبل کے لیے تیار رہیں۔ ہم اختراع کے لیے پُر عزم ہیں اور سٹی آف برامپٹن اور برامپٹن ٹرانزٹ کو ڈیجیٹل تبدیلی میں اسمارٹ سلوشنز کے لیے 2022 کا بزنس ایکسپلنس ایوارڈ حاصل کرنے پر فخر ہے۔"

- پال مورسین، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن



BRAMPTON

Media Release

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca